

برائے فوری اجراء

اس جون میں برامپٹن میں گھر سے باہر نکلیں اور چست ہو جائیں

جون تفریح کا مہینہ ہے!

برامپٹن، آن (28 مئی 2019) – جون تفریح کا مہینہ ہے اور تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور چست ہو جائیں۔ کھیل کے میدانوں، پکنک کی جگہوں، ٹینس کورٹس، اسپورٹس فیئرز، اسکیٹ بورڈ پارکس اور کھلی جگہوں کے ساتھ ان گرمیوں میں سٹی آف برامپٹن کی تفریحی سہولیات کے ساتھ بہت زیادہ لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔

جون کو بطور تفریح کا مہینہ منانے کے لیے سٹی کئی تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے، بشمول:

نیشنل ہیلتھ اینڈ فٹنس ڈے

1 جون | صبح 10 تا دن 12 | چنگواکوسی پارک
ہمارے ساتھ سکیوبینجرز ہنٹ، زومبا™ اور ہیلتھ اینڈ فٹنس بوتھز پر شامل ہوں

راک کلنگ ٹرائی اٹس

10 تا 16 جون | کین گائلز ریکریٹیشن سنٹر
برامپٹن کی تازہ ترین سہولت کو آزمائیں۔

پارک میں سرگرمیاں

10 تا 13 جون | کئی مقامات
2 جولائی کو باضابطہ طور پر کیمپ سیزن کے آغاز سے پہلے بچوں کو کیمپ گیمز کھیلنے اور ہمارے کیمپ رہنماؤں سے ملنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

انٹرنیشنل یوگا ڈے

21 جون | شام 7 تا رات 9 | ماؤنٹ پلیزنٹ کمیونٹی سنٹر
ایک نہ پھسلنے والا یوگا میٹ اپنے ساتھ لائیں، اپنے یوگا کے کپڑے پہنیں اور ایک شام کے لیے باہر یوگا کریں۔

برامپٹن 25 سے زائد کمیونٹی سنٹرز کا گھر ہے، جو 11 سوئمنگ پولز، 17 آئس رنکس، فٹنس کی سہولت گاہوں، کھیلوں کے اندرونی میدانوں، بیرونی سپلیش پیڈز اور ہر عمر اور صلاحیتوں کے حامل تمام لوگوں کے لیے کئی مختلف پروگرامز کی پیشکش کرتے ہیں۔

جون تفریح کا مہینہ ہے کے بارے میں www.brampton.ca/recmonth پر مزید جانیں۔

اپنے مقامی تفریحی سنٹر پر جا کر یا www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کر کے سٹی کی جانب سے پیشکش کردہ مواقع اور سرگرمیوں کے متعلق مزید جانیں۔

اقتباس

"جون تفریح کا مہینہ ہے کے دوران برامپٹن کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت گاہوں، کھلی جگہوں اور ہمارے پیش کردہ کئی پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کا بہترین موقع ہے۔ برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور میں تمام عمر کے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ نئے کھیلوں کو آزمائیں یا اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ہمراہ پارک میں کسی دن تشریف لا کر لطف اندوز ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca